

برائے فوری اجراء

## اس موسم گرما کے دوران، برامپٹن فارمرز مارکیٹ ایک نئی جگہ پر لگائی جائے گی

برامپٹن، آن (28 مئی 2021) – سٹی آف برامپٹن کی جانب سے کسانوں کی مارکیٹ 2021 کے موسم کے دوران 19 جون کو ڈاؤن ٹاؤن میں ایک نئی جگہ پر لگائی جائے گی۔

مارکیٹ کے اس موسم کے دوران ڈاؤن ٹاؤن میں متوقع ترقیاتی کاموں کی وجہ سے اس مرتبہ مارکیٹ کو کین وپلینز اسکوائر، ویلنگٹن سٹریٹ ویسٹ اور گیج پارک میں لگایا جائے گا۔ دھوپ ہو یا بارش، مارکیٹ کو 23 اکتوبر تک ہر ہفتہ کے دن صبح 8 تا دن 1 بجے تک کھلا رکھا جائے گا۔ بہت سے پسندیدہ کسان اور مقامی ہنرمند شخصیات تازہ اور منتخب شدہ موسمی پیداواری اشیاء کی فروخت کے لیے مارکیٹ میں واپس آئیں گے؛ اور آپ کی خدمت میں کھانے پینے کی تیار شدہ اشیاء اور دستکاری کے فن پارے پیش بھی کریں گے!

### کووڈ-19 کے صحت اور حفاظت کے اقدامات

سٹی کا عملہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ مارکیٹ کو صوبے اور ریجن آف پیل کے محکمہ پبلک ہیلتھ کی کووڈ-19 کی ہدایات اور رہنماء خطوط کے مطابق چلایا جائے۔ مارکیٹ میں موجود تمام فروخت کنندگان اور خریداروں کے لیے فیس ماسک کا پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ سماجی فاصلہ برقرار رکھنے اور احاطہ میں موجود افراد کی گنجائش کی حد کو بھی مدنظر رکھا جائے گا۔

### مارکیٹ تک پہنچنا

مارکیٹ ابھی بھی ڈاؤن ٹاؤن کے علاقے میں ایک مرکزی جگہ پر موجود ہو گی اور وہاں تک بذریعہ برامپٹن ٹرانزٹ یا سائیکل کے ذریعے آسانی سے پہنچا جا سکے گا۔ مارکیٹ تک اپنی گاڑی لے جانے والوں کے لیے برامپٹن سٹی ہال کے احاطہ میں پارکنگ کی سہولت بھی دستیاب ہو گی۔

### تعاون کنندگان

برامپٹن فارمرز مارکیٹ 2021 کو میریٹین کریڈٹ یونین کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ برامپٹن فارمرز مارکیٹ کے کارپوریٹ اسپانسر درج ذیل ہوں گے: الگوما یونیورسٹی، آلسٹیٹ اور سپرٹ آف میتھ برامپٹن۔

اس سال کی مارکیٹ کے بارے میں تازہ ترین معلومات کے لیے، براہ کرم [www.brampton.ca/markets](http://www.brampton.ca/markets) ملاحظہ کریں۔

### اقتباسات

"برامپٹن فارمرز مارکیٹ میں جانا یہاں کے خاندانوں کی 1986 سے ایک دلکش روایت رہی ہے اور میں خود بھی اپنی فیملی کے ساتھ ہر ہفتہ کی شام کو بڑے شوق سے وہاں جاتا ہوں۔ اگرچہ اس مرتبہ یہ مارکیٹ ایک نئی جگہ پر لگائی جا رہی ہے مگر اس کی دلکشی اور رعنائی میں کوئی فرق نہیں ہو گا اور اس میں پہلے کی ہمارے بہت سے من پسند کسان اور ہنرمند افراد موجود ہوں گے! میں لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ مارکیٹ کو ضرور دریافت کریں اور مقامی کاروباروں کی اعانت کریں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"چونکہ سٹی آف برامپٹن کووڈ-19 کی عالمی وباء کے مضر اثرات سے بحالی کی جانب گامزن ہے، برامپٹن فارمرز مارکیٹ ہمارے رہائشیوں اور سیاحوں کے لیے ایک پرکشش مقام ثابت ہو گی اور اس سے ہمارے مقامی فروخت کنندگان کی معاونت بھی ہو گی!"

- برکیرات سنگھ، سٹی کونسلر وارٹن 9 اور 10؛ چیئر، کوآپریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن فارمرز مارکیٹ کو نئے مقام پر منتقل کرنے سے سٹی آف برامپٹن کو انوویشن ڈسٹرکٹ کو تقویت پہنچانے کے لیے ڈاؤن ٹاؤن میں تعمیر نو اور ترقیاتی کاموں کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی؛ الگوما یونیورسٹی کو اپنے امور کو وسعت دینے میں آسانی ہو گی اور اس کے علاوہ ہورونٹیویو لائیٹ ریل ٹرانزٹ (LRT) پروجیکٹ کو فروغ دینے میں بھی آسانی رہے گی۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)